

ایل ایس ای پرائیکٹ لیڈنگ میٹنگ

دو ٹنگ کا ٹیبلٹ پیپر کھینچی کے غیر معمولی اجلاس عام میں خصوصی امور کیلئے ڈاک کے ذریعے 26 دسمبر کو 12:00 بجے کھینچی کے رجسٹرڈ دفتر،

ایل ایس ای پلازہ 19 خیابان ایوان اقبال لاہور پوسٹ کیا جاسکتا ہے فون: 3-6368000 +92-42 http://https://lse.com.pk

حصص دارا مشترکہ حصص دار کا نام	
رجسٹرڈ ایڈریس	
ملکتی حصص کی تعداد اور فولیو نمبر	
CNIC نمبر (کاپی لفٹ ہونا چاہئے)	
اضافی معلومات اور ملحقات (ہاڈی کارڈ پر پتہ کارپوریشن اور وفاقی حکومت کا نمائندہ ہونے کی صورت میں)	

میں/اہم مندرجہ ذیل قراء اور اہل کے سلسلے میں پوسٹ ٹیبلٹ کے ذریعے اپنے ووٹ استعمال کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب باکس میں ٹک (س) کا نشان لگا کر اپنی رضامندی یا اختلاف رائے دیتے ہیں:

میں/اہم قراء اور اہل کے سلسلے میں پوسٹ ٹیبلٹ کے ذریعے اپنے ووٹ استعمال کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب باکس میں ٹک (س) کا نشان لگا کر اپنی رضامندی یا اختلاف رائے دیتے ہیں:	میں/اہم قراء اور اہل کے سلسلے میں پوسٹ ٹیبلٹ کے ذریعے اپنے ووٹ استعمال کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب باکس میں ٹک (س) کا نشان لگا کر اپنی رضامندی یا اختلاف رائے دیتے ہیں:	میں/اہم قراء اور اہل کے سلسلے میں پوسٹ ٹیبلٹ کے ذریعے اپنے ووٹ استعمال کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب باکس میں ٹک (س) کا نشان لگا کر اپنی رضامندی یا اختلاف رائے دیتے ہیں:	میں/اہم قراء اور اہل کے سلسلے میں پوسٹ ٹیبلٹ کے ذریعے اپنے ووٹ استعمال کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب باکس میں ٹک (س) کا نشان لگا کر اپنی رضامندی یا اختلاف رائے دیتے ہیں:
عام حصص کی تعداد جن کے لئے ووٹ کاست کیا جائے گا	میں/اہم قراء اور اہل کے سلسلے میں پوسٹ ٹیبلٹ کے ذریعے اپنے ووٹ استعمال کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب باکس میں ٹک (س) کا نشان لگا کر اپنی رضامندی یا اختلاف رائے دیتے ہیں:	میں/اہم قراء اور اہل کے سلسلے میں پوسٹ ٹیبلٹ کے ذریعے اپنے ووٹ استعمال کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب باکس میں ٹک (س) کا نشان لگا کر اپنی رضامندی یا اختلاف رائے دیتے ہیں:	میں/اہم قراء اور اہل کے سلسلے میں پوسٹ ٹیبلٹ کے ذریعے اپنے ووٹ استعمال کرتے ہیں اور ذیل میں مناسب باکس میں ٹک (س) کا نشان لگا کر اپنی رضامندی یا اختلاف رائے دیتے ہیں:

قراء اور اہل کی نوعیت اور تفصیل

1	قراء یا ایکٹیو ایکٹ 2017 کے سیکشن 279 اور 283 اور دیگر قابل اطلاق دفعات، اگر کوئی ہوں، کی بیوی میں، اور رجسٹرڈ ممبر یا اور معزز عدالت عالیہ اور کی منظوری کے بغیر سے ایل ایس ای کی پیشین لیڈنگ (ٹرانسفری کھینچی) کے ساتھ اور اس میں ایل ایس ای پرائیکٹ لیڈنگ (ٹرانسفر کھینچی) کے مجوزہ انضمام (حصہ 1) بعد انضمام/ادغام کی اسکیم کا ذرا فٹ/جیسا کہ حصص داران کے درود رکھا گیا کو بڑیہ بڑا منظور کیا جاتا ہے۔		
2	قراء یا ایکٹیو ایکٹ 2017 کے سیکشن 279 اور 283 اور دیگر قابل اطلاق دفعات، اگر کوئی ہوں، کی بیوی میں، اور رجسٹرڈ ممبر یا اور معزز عدالت عالیہ اور کی منظوری کے بغیر سے ایل ایس ای کی پیشین لیڈنگ (ٹرانسفری کھینچی) کے ساتھ اور اس میں ایل ایس ای ممبر یا ایل ایس ای ممبر یا ایل ایس ای (ٹرانسفر کھینچی) کے مجوزہ انضمام (حصہ 1) بعد انضمام/ادغام کی اسکیم کا ذرا فٹ/جیسا کہ حصص داران کے درود رکھا گیا کو بڑیہ بڑا منظور کیا جاتا ہے۔		
3	قراء یا ایکٹیو ایکٹ 2017 کے سیکشن 279 اور 283 اور دیگر قابل اطلاق دفعات، اگر کوئی ہوں، کی بیوی میں، اور رجسٹرڈ ممبر یا اور معزز عدالت عالیہ اور کی منظوری کے بغیر سے ایل ایس ای کی پیشین لیڈنگ (ٹرانسفری کھینچی) کے ساتھ اور اس میں ایل ایس ای کی پیشین لیڈنگ (ٹرانسفر کھینچی) کے مجوزہ انضمام (حصہ 2) بعد انضمام/ادغام کی اسکیم کا ذرا فٹ/جیسا کہ حصص داران کے درود رکھا گیا کو بڑیہ بڑا منظور کیا جاتا ہے۔		
4	جزیرہ قراء یا ایکٹیو ایکٹ 2017 کے سیکشن 279 اور 283 اور دیگر قابل اطلاق دفعات، اگر کوئی ہوں، کی بیوی میں، اور رجسٹرڈ ممبر یا اور معزز عدالت عالیہ اور، پاکستان اسٹاک ایکسچینج لیڈنگ اور کسی دیگر مجوزہ قارئین کے پاس ہاڈی کارڈ پر پتہ کارپوریشن اور وفاقی حکومت کا نمائندہ ہونے کی صورت میں) کے ساتھ اور اس میں ایل ایس ای کی پیشین لیڈنگ (ٹرانسفر کھینچی) کے مجوزہ انضمام (حصہ 2) بعد انضمام/ادغام کی اسکیم کا ذرا فٹ/جیسا کہ حصص داران کے درود رکھا گیا کو بڑیہ بڑا منظور کیا جاتا ہے۔		
5	جزیرہ قراء یا ایکٹیو ایکٹ 2017 کے سیکشن 279 اور 283 اور دیگر قابل اطلاق دفعات، اگر کوئی ہوں، کی بیوی میں، اور رجسٹرڈ ممبر یا اور معزز عدالت عالیہ اور، پاکستان اسٹاک ایکسچینج لیڈنگ اور کسی دیگر مجوزہ قارئین کے ساتھ اور اس میں ایل ایس ای کی پیشین لیڈنگ (ٹرانسفر کھینچی) کے مجوزہ انضمام (حصہ 2) بعد انضمام/ادغام کی اسکیم کا ذرا فٹ/جیسا کہ حصص داران کے درود رکھا گیا کو بڑیہ بڑا منظور کیا جاتا ہے۔		

(p) اسکیم کی موثر تاریخ 30 جون 2023 کو اپنی دوسری تاریخ جس کا تین معزز لاہور ہائی کورٹ نے کیا ہے۔ تاہم، یا اسکیم میں متضمن کردہ وسیع پیمانے پر کٹوتیوں کے





**PROPTech**  
**BALLOT PAPER**

For voting through post for Special Business at the Extraordinary General Meeting  
to be held at 12:00 Noon on December 26, 2023 at Registered Office at LSE Plaza, 19 - Khayaban-e-Altan-e-Iqbal,  
Lahore. Tel: +92 42 3636 8000 - 3 / <http://https://lse.com.pk/>

Name of shareholder / joint shareholders	
Registered Address	
Number of shares held and folio number	
CNIC Number (copy to be attached)	
Additional Information and enclosures (in case of representative of body corporate, corporation and Federal Government)	

I/we hereby exercise my/our vote in respect of the following resolutions through postal ballot by conveying my/our assent or dissent to the following resolution by placing tick (✓) mark in the appropriate box below (delete as appropriate):

Sr No.	Nature and Description of resolutions	No. of ordinary shares for which votes cast	I/We assent to the Resolutions (FOR)	I/We dissent to the Resolutions (AGAINST)
1	RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 279 to 283 of the Companies, Act, 2017 and other applicable provisions, if any, and subject to the approval of Registrar Modaraba and the Honorable Lahore High Court, the proposed merger (Part-1) of LSE PropTech Limited ('Transferor Company') with and into LSE Capital Limited ('Transferee Company') along with the draft Scheme of Amalgamation/ Merger/ as placed before the shareholders, be and are hereby approved.			
2	RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 279 to 283 of the Companies, Act, 2017 and other applicable provisions, if any, and subject to the approval of Registrar Modaraba and the Honorable Lahore High Court, the proposed merger (Part-1) of Modaraba Al-Mali ('Transferor Company') with and into LSE Capital Limited ('Transferee Company') along with the draft Scheme of Amalgamation/ Merger/ as placed before the shareholders/ certificate-holders, be and are hereby approved.			
3	RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 279 to 283 of the Companies, Act, 2017 and other applicable provisions, if any, and subject to the approval of Registrar Modaraba and the Honorable Lahore High Court, the proposed partial merger (Part-2) of LSE Capital Limited ('Transferor Company') with and into LSE Financial Services Limited ('Transferee Company') along with the draft Scheme of Amalgamation/ Merger/ as placed before the shareholders, be and are hereby approved.			
4	RESOLVED FURTHER THAT approval be and is hereby accorded to implement the Scheme and accordingly application/petition shall be filed with the Securities and Exchange Commission of Pakistan, honorable Lahore High Court, Pakistan Stock Exchange Limited and any other competent authority(ies).			
5	RESOLVED FURTHER THAT the approval of the shareholders and Modaraba certificate-holders, be and is hereby granted to the terms and conditions as set out in the draft Scheme of Amalgamation/ Merger, which includes, inter-alia, the following: a) That all asset and liabilities including Income Tax and all other statutory liabilities of the Transferor Company (LSE PropTech Limited) will be transferred to and vest in the Transferee Company i.e. LSE Capital Limited (as described in Schedule - 1 of the Scheme); b) That all asset and liabilities including Income Tax and all other statutory liabilities of the Transferor Company (Modaraba Al-Mali) will be transferred to and vest in the Transferee Company i.e. LSE Capital Limited (as described in Schedule - 2 of the Scheme); c) That designated asset and liabilities including Income Tax and all other designated statutory liabilities of the Transferor Company (LSE Capital Limited) will be transferred to and vest in the Transferee Company i.e. LSE Financial Services Limited (as described in Schedule - 3 of the Scheme); d) That all the employees of the Transferor Company (i.e. LSE PropTech Limited), if any, in service on the date immediately preceding the date on which Scheme finally takes effect i.e. the Effective Date, shall become the employees of the Transferee Company i.e. LSE Capital Limited (as described in Schedule - 6 of the Scheme) on such date without any break or interruption in service and upon terms and conditions not less favorable than those subsisting in the concerned Transferor Company on the said date; e) That all the employees of the Transferor Company (i.e. Modaraba Al-Mali), if any, in service on the date immediately preceding the date on which Scheme finally takes effect i.e. the Effective Date, shall become the employees of the Transferee Company i.e. LSE Capital Limited (as described in Schedule - 6 of the Scheme) on such date without any break or interruption in service and upon terms and conditions not less favorable than those subsisting in the concerned Transferor Company on the said date; f) No transfer of employee shall be made from LSE Capital Limited (as Transferor Company) to LSE Financial Services Limited (as Transferee Company); g) That the Scheme of Amalgamation / Merger shall be effective from Effective Date, the provisions of the Scheme, so far as they relate to transfer and vesting of the business and undertaking(s) of the Transferor Company(ies) (as described in Schedule - 1, Schedule - 2 and Schedule - 3 of the Scheme) into the Transferee Company(ies), shall be applicable and come into operation from the Sanction Date or such other date as the Honorable Lahore High Court may approve; h) That the LSE Capital Limited shall allot shares to the shareholders of the LSE PropTech Limited in accordance to the SWAP Ratio as per the Valuation Report given by the Kreston Hyderbhimji & Co., Chartered Accountants (or any other renowned practicing-chartered accounting firm), as tabled before the meeting and taken note of; and i) That the LSE Capital Limited shall allot shares to the certificate-holders of the Modaraba Al-Mali in accordance to the SWAP Ratio as per the Valuation Report given by the Kreston Hyderbhimji & Co., Chartered Accountants (or any other renowned practicing-chartered accounting firm), as tabled before the meeting and taken note of; and j) That the LSE Financial Services Limited shall allot shares to the shareholders of the LSE Capital Limited, to the certificate-holders of Modaraba Al-Mali and to the LSE Capital Limited in accordance to the SWAP Ratio as per the Valuation Report given by the Kreston Hyderbhimji & Co., Chartered Accountants (or any other renowned practicing-chartered accounting firm), as tabled before the meeting and taken note of; and			

Hyderbhimji & Co., Chartered Accountants (or any other renowned practicing-chartered accounting firm), as tabled before the meeting and taken note of; and

- i) That the LSE Capital Limited shall allot shares to the certificate-holders of the Modaraba Al-Mali in accordance to the SWAP Ratio as per the Valuation Report given by the Kreston Hyderbhimji & Co., Chartered Accountants (or any other renowned practicing-chartered accounting firm), as tabled before the meeting and taken note of; and
- j) That the LSE Financial Services Limited shall allot shares to the shareholders of the LSE Capital Limited, to the certificate-holders of Modaraba Al-Mali and to the LSE Capital Limited in accordance to the SWAP Ratio as per the Valuation Report given by the Kreston Hyderbhimji & Co., Chartered Accountants (or any other renowned practicing-chartered accounting firm), as tabled before the meeting and taken note of; and
- k) That LSE Capital Limited shall allot shares to LSE Financial Services Limited in accordance to the Scheme.
- l) That the distribution of shares of LSE Proptech Limited owned by Modaraba Al-Mali to be distributed to the certificate-holders of Modaraba Al-Mali.
- m) That the distribution of certificates of Modaraba Al-Mali owned by LSE Capital Limited to be made to the shareholders of LSE Capital Limited.
- n) That the listing status of the LSE Proptech Limited (LSEPL) with the Pakistan Stock Exchange Limited (PSX) and eligibility status (of LSEPL) with Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) along with all privileges, rights and liabilities of the Transferor Company with PSX and CDC shall be transferred in the names of the LSE Capital Limited (as described in the Scheme).
- o) That the listing status of the Modaraba Al-Mali (MODAM) with the Pakistan Stock Exchange Limited (PSX) and eligibility status (of MODAM) with Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) along with all privileges, rights and liabilities of the Transferor Company with PSX and CDC shall be transferred in the names of the LSE Financial Services Limited (as described in the Scheme).
- p) Effective date of the Scheme is June 30, 2023 or any other date which is determined by the honorable Lahore High Court. However, this will not affect the SWAP ratio determined in the Scheme. Any difference, if any, will be adjusted either in goodwill or merger reserves, as the case may be. Moreover, actual transfer will be effectuated on sanctioned date, when the Scheme shall become the operative (as defined in Article - 3 of the Scheme). No further approval shall be required from the shareholders of the Company.
- q) SWAP ratio will not be changed unless directed (and accepted by the Company) by the honorable Lahore High Court or the Securities and Exchange Commission of Pakistan, as the case may be. Any difference, if any, will be adjusted either in goodwill or merger reserves, as the case may be. No further approval shall be required from the shareholders of the Company.

6.	RESOLVED FURTHER THAT pursuant to the provision of Section 279 to 283 of the Companies, Act, 2017 and other applicable provisions, necessary joint/separate application(s), petition(s) and may be moved by the Chief Executive Officer or the Company Secretary of LSE Capital Limited singly before the Honorable Lahore High Court, for seeking its directions as to convening, holding and conducting of any meeting(s) of the shareholders and creditors (if any) or dispensation thereof, as the case may be, including for the appointment of Chairman, issuance and dispatch of notices and placement of advertisements and for seeking any other directions as the Honorable Lahore High Court may deem fit and proper and for seeking the approval of the proposed amalgamation/ merger and the proposed Scheme of Amalgamation / Merger."	
7.	RESOLVED FURTHER THAT approval be and is hereby given to the Board of Directors of LSE Proptech Limited and LSE Capital Limited to amend the swap ratio, if advised or directed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan or honorable Lahore High Court, as the case may be, for the issuance of shares of LSE Capital Limited to the shareholders of the LSE Proptech Limited.	
8.	RESOLVED FURTHER THAT approval be and is hereby given to the Board of Directors of Modaraba Al-Mali and LSE Capital Limited to amend the swap ratio, if advised or directed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan or honorable Lahore High Court, as the case may be, for the issuance of shares of LSE Capital Limited to the shareholders of the LSE Proptech Limited.	
9.	RESOLVED FURTHER THAT approval be and is hereby given to the Board of Directors of LSE Capital Limited and LSE Financial Services to amend the swap ratio, if advised or directed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan or honorable Lahore High Court, as the case may be, for the issuance of shares of LSE Financial Services Limited to the shareholders of the LSE Capital Limited and to the LSE Capital Limited.	
10.	RESOLVED FURTHER THAT approval be and is hereby given to the Board of Directors of LSE Financial Services and LSE Capital Limited to amend the swap ratio, if advised or directed by the Securities and Exchange Commission of Pakistan or honorable Lahore High Court, as the case may be, for the issuance of shares of LSE Capital Limited to the LSE Financial Services Limited.	
11.	RESOLVED FURTHER THAT the shareholders, be and hereby authorize singly the Chief Executive or the Company Secretary of the Company (i.e. respective company/ corporate undertaking), to undertake and implement all relevant steps/actions, required to be completed, as a consequence of the approval of the above special resolutions.	
12.	RESOLVED FURTHER THAT the Chief Executive Officer or the Company Secretary of the LSE Capital Limited, be and are hereby singly authorized to submit the certified true copies of the resolutions passed by the shareholders of the Company (i.e. respective company/ corporate undertaking) to the Honorable Lahore High Court, the Registrar of Companies, the Securities and Exchange Commission of Pakistan, Pakistan Stock Exchange Limited and such other competent authorities, if necessary."	
13.	RESOLVED FURTHER THAT the Chief Executive Officer, or the Company Secretary of the LSE Capital Limited, be and are hereby singly authorized: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) To sign, submit or present necessary applications, petitions, supplementary applications/petitions, summons, deeds, documents, instruments, rejoinders, replies, and to swear affidavits or execute bonds for the above-mentioned amalgamation/ merger;</li> <li>b) To engage any counsel(s)/advocate(s)/consultant(s) to file the application(s) and petition(s) before the Honorable Lahore High Court, and to do other needful tasks;</li> <li>c) To appear [in person or through representative(s)] before the Honorable Lahore High Court; the Offices of the Registrar of the Companies; the Securities and Exchange Commission of Pakistan; Pakistan Stock Exchange Limited and/or before any other authority or person in connection with the aforesaid amalgamation/merger; and</li> <li>d) To do any other act, deed or thing which may be ancillary or incidental to the above-mentioned matter or which may otherwise be required for the aforesaid purpose.</li> </ul>	

Signature of shareholder(s)  
 Place:  
 Date:

**NOTES:**

1. Duly filled postal ballot should be sent to Co-Chairman, or by email at: info@lse.com.pk.
2. Copy of the CNIC / Passport (in case of a foreigner) should be enclosed with the postal ballot form.
3. Postal ballot forms should reach the Co-Chairman of the meeting on or before December 25, 2023. Any postal ballot received after this date, will not be considered for voting.
4. Signature on the postal ballot should match with the signature on the CNIC / Passport (in case of a foreigner).
5. Incomplete, unsigned, incorrect, defaced, torn, mutilated, the over-written ballot paper will be rejected.
6. In the case of a corporate entity, the Ballot Paper Form must be accompanied by the Board of Directors'